

اہم مدنی پھول

- ☆ وقت مناسب پر نماز تہجد کی ادائیگی کے بعد دعا و استغفار میں مشغول رہنا۔
- ☆ بعد نماز فجر: شجرہ شریف سے "صبح کے اوراد"، تلاوت قرآن (تفسیر صراط الجنان سے تین آیات مع ترجمہ و تفسیر)، درس فیضان سنت 7 منٹ (فیضان نماز / غیبت کی تباہ کاریاں)، پھر نماز اشراق و چاشت کی ادائیگی
- ☆ بعد نماز ظہر "گروپ کی امیر اسلامی بہن کے لیے درس کے موضوعات" سیکھنے / سکھانے کا حلقہ لگانا۔ (یہ پیپر ریکارڈ فائل میں موجود ہے)
- ☆ بعد نماز عصر: شجرہ شریف سے "شام کے اوراد" پڑھانا، عاشقان رسول کی 130 حکایات سے 12 منٹ پڑھ کر سنانا۔ (مکہ مکرمہ میں ہوں تو مکے کے فضائل اور مدینہ منورہ میں ہوں تو مدینے کے فضائل سنائیں)
- ☆ بعد نماز مغرب: "صلوٰۃ الاوائلین"، سورہ ملک و سورہ یس کی تلاوت کرنا، 19 نیک اعمال کے رسالے پر جائزہ لیتے ہوئے نشان لگانا۔
- ☆ بعد نماز عشاء: مکہ مکرمہ میں ہوں تو عمرہ / طواف کے لیے جانا اور مدینہ منورہ میں ہوں تو بارگاہ رسالت میں سلام، ریاض الجنۃ کی حاضری کے لیے جانا۔
- ☆ ممکنہ صورت میں روزانہ ورنہ اپنی صحت اور ہمت کے مطابق جتنا ہو سکے روزے رکھنا۔
- ☆ (تجوید ٹیسٹ پاس مدزہ ہو تو) ان کے ذریعے قیام گاہ میں موجود اسلامی بہنوں کو مدنی قاعدہ پڑھانا / اذکار نماز درست قواعد و مخارج سے پڑھانا۔
- ☆ ہفتہ وار رسالہ پڑھنا / آڈیو سننا۔
- ☆ جب تک حرمین طیبین میں رہیں روزانہ کم از کم 1200 درود پاک پڑھنا۔
- ☆ ہفتہ وار سنتوں بھر اجتماع / محفل نعت / حج تہیتی اجتماع میں شرکت کرنا۔
- ☆ فیضان حج و عمرہ / فیضان نماز یا کوئی اور شارٹ کورس کرنا۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالسَّلَامُ عَلٰی خَاتَمِ النَّبِیْنَ اَمَّا بَعْدُ فَكُنُوْذُ بِاَللّٰہِ مِنَ السَّبِیْطِ الْرَجِیْمِ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

شیڈول برائے حرمین طیبین (اسلامی بہنوں کے لیے)

ذُرُودِ پاك کی فضیلت

شیخ طریقت امیر اہلسنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے "ضیائے درود و سلام" میں ص 4 پر فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقل فرماتے ہیں:

"تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے"

(المجم الکبیر جلد 3، ص 82، حدیث 2729، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْبِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْ مُحَمَّدٍ

اللہ پاک کی رحمت سے ملنے والے اجر و ثواب کی حرص بڑھاتے ہوئے نہایت ہی ادب و احترام اور ذوق و شوق کے ساتھ حرمین طیبین میں خوب نیک اعمال بجالائیں اور گناہ کرنے سے ہر ممکن طور پر خود کو بچائیں، کہ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے!

"شیڈول برائے حرمین طیبین" کے مطابق اپنی زندگی کے یہ قیمتی و سنہری ایام گزاریں و "ارکان حج کی

ادائیگی" و "حاضری روضہ رسول" کے علاوہ دیگر تمام وقت نقلی عبادات تلاوت، ذکر و درود، تسبیحات، دینی مطالعہ، سنتوں بھرے بیانات، مدنی مذاکرے، میموری کارڈ یا آئی پڈا میں i.pad میں download کروا کر سننے میں گزاریں، دیگر مشغولیت مثلاً "شاپنگ" وغیرہ میں وقت گزارنے سے اجتناب فرمائیں۔

کرنے والے کاموں مثلاً تلاوت و نعت، ذکر و درود، دینی مطالعہ، نیک اعمال کا جائزہ، بیان و مدنی مذاکرہ سننے میں خود کو مصروف رکھیں گے تو نہ کرنے والے کاموں (مثلاً فضول گوئی، ہنسی مذاق، غیبت، چغلی، جھوٹ، بدگالی، موبائل فون کا غیر ضروری استعمال، مسجدین کریمین میں دنیا کی باتوں وغیرہ) سے اِنْ شَاءَ اللہ الکریم بچت کا سامان ہو گا۔ اور یوں اِنْ شَاءَ اللہ الکریم سَفَرِ مدینہ میں خشوع و خضوع، ذوق و شوق، رِقَّتِ قلبی، اشکباری اور آہ و زاری کی سعادت بھی نصیب ہوگی۔

سوئے طیبہ سفر کرنے والوں! الب پھ قفل مدینہ لگالو

آنکھ شرم و حیا سے جھکالو! اس میں تمہارا جھلا ہے

کھیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے

سنجھل کہ پاؤں رکھنا حاجیو! شہر مدینہ میں

- ii. 8 ذوالحجۃ الحرام سیدنا عثمان غنی رَضِيَ اللهُ عَنْهُ کا "عُرس" منایا جائے۔
- iii. 14 ذوالحجۃ الحرام ابو عطار رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ کا "یوم" منایا جائے۔
- ☆ مکہ مکرمہ میں عرس کے مواقع پر عمرہ یا طواف بھی کیا جاسکتا ہے۔
- ☆ امیر اہلسنت دامت برکاتہم العالیہ ماہ رمضان کی طاق راتوں میں صلوة التسلیح کا خصوصیت سے اہتمام فرماتے ہیں اور اس کی ترغیب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ ماہ ذوالحجۃ الحرام کا پہلا عشرہ بہت فضیلت والا ہے اس عشرے کی راتوں میں اور جتنے بھی جمعۃ المبارک نصیب ہوں تو اسے بھی اپنے معمولات میں شامل کیا جائے۔
- ☆ اللہ پاک کی توفیق سے حریم طیبین میں جن نیک اعمال کی سعادت ملی انہیں کسی کے سامنے بیان کر کے "ریا کاری" سے بچئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ریا کاری کی نحوست سے تمام اعمال برباد ہو جائیں۔

عالمی مجلس مشاورت

(دعوتِ اسلامی)

- ☆ اگر قیام گاہ حدود حریمین طیبین میں ہو تو پنجگانہ نمازیں اسلامی بہنیں فرود گاہ (یعنی قیام گاہ) ہی میں پڑھیں بصورت دیگر جہاں بھی (ہوٹل / کمرہ) نماز ادا کریں "انفرادی" ہی پڑھیں۔ رفیق الحرمین صفحہ 143 پر ہے نمازوں کے لیے جو عورتیں مسجدین کریمین میں حاضر ہوتی ہیں جہالت ہے کہ مقصود ثواب ہے اور خود پیارے سرکار، مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: "عورت کو میری مسجد (یعنی مسجد نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) میں نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب گھر میں پڑھنا ہے" (بہار شریعت ج 1، ص 1112، مسند امام احمد بن حنبل ج 10 ص 310 حدیث 28158 اخذ شدہ رفیق الحرمین ص 143 تا 144) "اوقات نماز و سحر و افطار برائے حریمین طیبین" مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے، جسے رسالہ اوقات نماز و سحر و افطار برائے حریمین طیبین میسر نہ ہو تو وہ شعبہ اوقات الصلوٰۃ کی application کے ذریعے استفادہ حاصل کر سکتا ہے۔
- ☆ اسلامی بہنیں اپنے کاروان یا اپنے محرم کے ساتھ طواف کے لیے جائیں۔
- ☆ نگاہوں اور زبان کا قفل مدینہ لگا کر ذکر و درود کی کثرت کرتے ہوئے طواف کے لیے جائیں۔
- ☆ مسجد کا احترام اور مطاف میں اسلامی بھائیوں کے ہجوم سے بچ کر دور سے طواف کریں۔
- ☆ جب جب کعبۃ اللہ شریف پر نظر پڑے دعا مانگیں۔
- ☆ دورانِ قیام، حریمین طیبین، عشق رسول بڑھانے کے لیے اعلیٰ حضرت رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ کا نعتیہ دیوان "حدائق بخشش"، استاذِ زمن مولانا حسن رضا خان رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ کا کلام "ذوقِ نعت" کا خوب مطالعہ فرمائیے (رفیق الحرمین ص 215) نیز امیر اہلسنت کا کلام "وسائلِ بخشش" کا مطالعہ کرنا / سننا بھی بہترین ہے۔
- ☆ اگر آپ کی قضائے عمری باقی ہے تو سنت غیر مؤکدہ اور نوافل کی جگہ اپنی قضائے عمری ادا کریں۔
- (مزید معلومات کے لئے امیر اہلسنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب اسلامی بہنوں کی نماز سے صفحہ 147 تا 169 میں موجود رسالہ قضا نمازوں کا طریقہ پڑھئے)
- ☆ 8، 9، 10، 11، 12 ذوالحجۃ الحرام "ایام حج" ہیں لہذا ان ایام میں عبادت کا خصوصاً اہتمام فرمائیں اور ہو سکے تو ان مقدس راتوں میں شب بیداری فرمائیں اور پوری رات عبادت میں گزریں اور دن میں آرام فرمائیں۔
- i. ہو سکے تو ۴ ذوالحجۃ الحرام کو سیدی قطب مدینہ رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ کا "عُرس" منایا جائے۔